

پالیسی نمبر: NATL.CB.307	پالیسی تائل: طبی مالی معاونت
مؤثر تاریخ: 1 فروری 2021	ملکیتی محکمہ: National Community Benefit
صفحہ: 1 از 18	نکران: ڈائیکٹر طبی مالیاتی معاونت

## پالیسی کا بیان 1.0

پروگراموں کی فراہمی کے لئے پر عزم بین جو مصیبت زدہ آبادی کی نگہداشت تک رسائی کو انسان بناتے ہیں۔ اس عزم میں کم آمدن کے ابل غیر انشورنس شدہ اور کم انشورنس شدہ مریضوں کی مالی معاونت شامل ہے جب ایمرجنسی اور طبی طور پر ضروری کیفیت کے لئے خدمات کے لئے ادائیگی کی ابیلت ان کے لئے رکاوٹ ہوتی ہے۔

## مقصد 2.0

یہ پالیسی طبی مالی امداد (Medical Financial Assistance, MFA) کے ذریعے ایمرجنسی اور طبی طور پر ضروری خدمات کے حصول کے لئے ابیلت کی ضروریات کو واضح کرتی ہے۔ یہ ضروریات امریکی انٹرنل ریونیو کوڈ کے سیکشن (r) 501 کے مطابق بین اور ابل خدمات کی فراہمی کے راستی ضوابط پر لاگو ہوتی ہیں، رسائی کیسے حاصل کرنی ہے، پروگرام کی ابیلت کا طریقہ کار، MFA ایوارڈ کا سٹرکچر، ایوارڈ کی رقم کا حساب کرنے کی بنیاد اور میڈیکل بلز کی عدم ادائیگی پر قابل اجازت کارروائیاں۔

## دائہ کار 3.0

یہ پالیسی ان ملازمین پر لاگو ہوتی ہے جو درج ذیل بستیوں اور ان کے ماتحت اداروں (جو اجتماعی طور پر "KFHP/H" کے نام سے جانے جاتے ہیں) کے پاس ملازمت کرتے ہیں:

Kaiser Foundation Health Plan, Inc. 3.1

اور Kaiser Foundation Hospitals 3.2

کے ذیلی ادارے 3.3

یہ پالیسی Kaiser Foundation Hospitals اور بسیتال سے وابستہ کلینیکوں پر لاگو ہوتی ہے جو منسلک ضمیمه، سیکشن I, میں درج ہیں اور حوالہ کے ذریعہ یہاں شامل کی گئی ہیں۔

## تعريفیں 4.0

اپنڈیکس A دیکھیں - اصطلاحات کی فربنگ

## دستیابی 5.0

KFHP/H مریضوں کی عمر، معدنوی، صنف، نسل، مذہبی وابستگی یا ترک وطنی کی حالت، جنسی رجحان، قومیت سے قطع نظر، اور اس بات سے بھی قطع نظر کہ آیا مریض کی صحت کی کوئی بے یا نہیں، ابل مریضوں کے لئے بنگامی اور طبی طور پر ضروری دیکھ بھال حاصل کرنے میں مالی رکاوٹوں کو دور کرنے کے لئے ایک تجربہ کار MFA پروگرام کو برقرار رکھتا ہے۔

**خدمات جو MFA کی پالیسی کے تحت ابل اور غیر ابل ہیں۔** جب تک دوسری صورت میں منسلک ضمیمه سیکشن II میں ذکر ہے MFA کی پالیسی کے تحت ابل اور غیر ابل اضافی خدمات۔

پالیسی نمبر: NATL.CB.307	پالیسی ثائل: طبی مالی معاونت
مؤثر تاریخ: 1 فروری 2021	ملکیتی محکمہ: National Community Benefit
صفحہ: 2 از 18	نکران: ڈائیرکٹر طبی مالیاتی معاونت

**اول خدمات.** MFA کا اطلاق بنگامی اور طبی طور پر ضروری صحت کی دیکھ بھال کی خدمات، H KFHP/KP کے آٹھ پیشینٹ دوا خانے، یا Kaiser Permanente اور KP کی سہولیات (جیسے، اسپیتالوں، اسپیتال سے وابستہ کلینیکوں، طبی مراکز، اور طبی دفاتر کی عمارتوں) میں فرابم کی جانب والی طبی سہولتوں پر کیا جا سکتا ہے۔ MFA درج ذیل خدمات اور مصنوعات پر لاگو کیا جا سکتا ہے:

**طبی طور پر ضروری خدمات.** دیکھ بھال، علاج، یا KP فرابم کنندہ کی جانب سے فرابم کی جانب والی خدمات جو بچاؤ، جانچ، تشخیص یا طبی حالت کے علاج کے لئے ضروری بین اور بینیادی طور پر مریض یا میڈیکل نگهداری کی آسانی کے لئے نہیں بین۔

**نسخہ جات اور فارمیسی سپلائز.** KFHP/H کے آٹھ پیشینٹ فارمیسی میں پیش کیے گئے نسخے اور KP فرابم کنندگان، غیر KP بنگامی محکمہ کے فرابم کنندگان، غیر KP فوری نگهداری فرابم کنندگان، اور KP کے معابدہ والے فرابم کنندگان کے ذریعہ تحریر کردہ نسخے۔

**جنرک ادویات.** ترجیحی طور پر جنرک ادویات کا استعمال جب بھی ممکن ہو۔

**برانڈ ادویات.** کے پی فرابم کنندہ کی جانب سے تجویز کردہ برانڈ ادویات جس میں بتایا گیا ہو کہ "لکھے گئے مطابق فرابمی (DAW)"، یا "Dispense as Written"، یا اس کے مساوی کوئی جنرک دستیاب نہیں۔

**کاؤنٹر پر ادویات یا فارمیسی سپلائز.** نسخے کے ساتھ یا کے پی فرابم کنندہ کی جانب سے لکھے گئے اور KP آٹھ پیشینٹ فارمیسی کی طرف سے فرابم کردہ۔

**Medicare سے مستفید بونے والے.** نسخے پر ادویات کے لئے Medicare سے مستفید بونے والوں پر لاگو جو مبڑی کیئر پارٹ D میں فارمیسی سے میرا بونے کے زمرے کے تحت آئے بین۔

**پائیدار طبی آلات** DME (Durable Medical Equipment, DME) کے دیا گیا اور H KFHP کے ذریعہ مریض کو فرابم کیا گیا جو طبی تقاضوں کے معیار پر پورا اترتا ہو۔

**بیلنچ ایجوسشن کلاسز.** شیڈول کردہ دستیاب کلاسز سے فیس منسلک ہے جس کی کے پی فرابم کنندہ کی جانب سے مریض کے کیئر پلان کے حصے کے طور پر سفارش کی گئی ہے۔

**خدمات استثناء کی بنیاد پر دستیاب ہیں.** کچھ ایسی صورتحال میں جو مستثنی ہیں، (1) غیر KP سہولت پر فرابم کی جانب والی خدمات پر لاگو بوسکتی ہے اور (2) KP فرابم کنندہ کے ذریعہ تجویز کردہ یا DME کے آرڈر کردہ اور معابدہ/فروش کے ذریعہ فرابم کردہ ذیل میں بیان کیا گیا ہے۔ استثناء کا ابل بونے کے لیے، مریض کے لیے ضروری ہے کہ وہ زیادہ طبی اخراجات کے اس معیار کو پورا کرتا ہو جو ذیل میں سیکشن 5.6.2 میں بیان کیا گیا ہے۔

پالیسی نمبر: NATL.CB.307	پالیسی ثائل: طبی مالی معاونت
مؤثر تاریخ: 1 فروری 2021	ملکیتی محکمہ: National Community Benefit
صفحہ: 3 از 18	نکران: ڈائریکٹر طبی مالیاتی معاونت

<p>بنر مند نرسنگ کی خدمات اور انٹرمیڈیٹ نکھداشت کی خدمات۔ ایک معابدہ شدہ KP کی سہولت کے ذریعہ کسی مریض کو بسپتال سے مریضوں کے خارج ہونے والے مادہ کی سہولت کے لئے مشورے کی ضرورت ہوتی ہے۔</p> <p>بائیدار طبی آلات (DME)۔ وینڈر نے DME کے رینما اصولوں کے مطابق KP کے فرایم کنندہ کے ذریعہ KFHP/H DME کی فرایمی کی تھی اور KFHP/H DME کے ملکیتی مکمل کے ذریعہ ایک معابدہ والے وینڈر کے ذریعہ فرایم کی گئی ہے۔</p> <p>اضافی ابل خدمات دستیاب ہیں۔ اضافی خدمات جو MFA کی پالیسی کے تحت ابل ہیں ان کی نشاندہی ضمیم، سیکشن II، MFA کی پالیسی کے تحت کی جانب والی اضافی خدمات کے ابل اور ابل نہیں ہے۔</p> <p>غیر ابل خدمات۔ جن پر MFA لاگو نہیں بو سکے گا:</p> <p>خدمات جو بنگامی نوعیت یا طبی طور پر ضروری تصور نہ ہوں جیسا کہ KP فرایم کنندہ کی جانب سے تعین کیا گیا ہے۔ شامل لیکن محدود نہیں:</p> <p>کاسمیٹک سرجری یا خدمات جس میں جلد سے متعلق خدمات شامل ہیں جو کہ بنیادی طور پر مریض کی ظاہری شکل کی بہتری کے لئے ہوں،</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>بانجھ پن کا علاج،</li> <li>ریٹیل میڈیکل سپلائز،</li> </ul> <p>متبدل علاجات، بشمول ایکیوینکچر، چیروپریکٹک، اور مساج کی خدمات،</p> <p>جنسی غیر فعالیت کے علاج کے لئے انجکشنز اور آلات، سروگیسی خدمات اور</p> <p>فریق ثالث کی ذمہ داری، ذاتی بیم تحفظ یا کارکنوں کے معاوضے کے معاملات سے متعلق خدمات۔</p> <p>غیر KP صحت بیم والے مریضوں کے لئے خدمات۔ غیر فوری یا غیر بنگامی خدمات اور آؤٹ پیشنٹ کی فارمیسی کے سپلائز جو مریض کے غیر KP صحت کی کوئیج کے تحت آتی ہیں جس میں مریضوں کو ترجیحی غیر KP فرایم کنندگان اور فارمیسیوں کا ایک مخصوص نیٹ ورک استعمال کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔</p> <p>نسخہ جات اور فارمیسی سپلائز۔ نسخہ جات اور سپلائز کو بنگامی یا طبی طور پر ضروری تصور نہیں کیا جاتا۔ شامل لیکن محدود نہیں (1) ادویات جو فارمیسی اور تھیرابیوٹک کمیٹی کی جانب سے منظور نہیں کی گئیں، (2) کاؤٹر پر ادویات اور سپلائز جو KP فرایم کنندہ کی جانب سے تجویز یا آرڈر نہیں کی گئیں اور (3) خصوصی طور پر شامل نہ ہونے والی ادویات (مثال کے طور پر فریٹیلیٹ، کاسمیٹک، جنسی عدم فعالیت)۔</p>	<p><b>5.1.1.4.1</b></p> <p><b>5.1.1.4.2</b></p> <p><b>5.1.1.5</b></p> <p><b>5.1.2.1</b></p> <p><b>5.1.2.1.1</b></p> <p><b>5.1.2.1.2</b></p> <p><b>5.1.2.1.3</b></p> <p><b>5.1.2.1.4</b></p> <p><b>5.1.2.1.5</b></p> <p><b>5.1.2.1.6</b></p> <p><b>5.1.2.1.7</b></p> <p><b>5.1.2.1.8</b></p> <p><b>5.1.2.2</b></p>
--	---

پالیسی نمبر: NATL.CB.307	پالیسی تائل: طبی مالی معاونت
مؤثر تاریخ: 1 فروری 2021	ملکیتی محکمہ: National Community Benefit
صفحہ: 4 از 18	نکران: ڈائریکٹر طبی مالیاتی معاونت

**Medicare پارٹ D** میں درج بونے والوں کے لئے یا کم آمدی پر سیسڈی (Low Income Subsidy, LIS) پروگرام میں درج افراد کے لئے نسخہ جات Medicare ایڈوانسچ پارٹ D کی فہرست میں درج بونے والے جو کہ یا تو ابل بین یا LIS پروگرام میں درج بین Medicaid اور Medicare خدمات گائیڈ لائنز کے مطابق ادویات کے نسخہ جات کی قیمت کا باقی شیئر۔

**کے پی سہولیات سے باہر خدمات کی فرایمی.** MFA کی پالیسی KP فرایم کنندہ کی جانب سے صرف KP سہولیات میں لاگو ہوتی ہے۔ اس پر بھی کہ KP فرایم کنندہ ریفر کرے، تمام دوسرا خدمات MFA کے لئے غیر ابل بین۔ غیر KP میڈیکل دفاتر، فوری نگہداشت کی سہولیات اور بنگامی مددکموں کے ساتھ ساتھ غیر KP بوم بیلتھ، بسپیس، صحت یابی کی نگہداشت، اور حراست والی خدمات فرایم کی جانے والی خدمات کو مستثنی کر دیا جاتا ہے، الہ کہ مذکورہ بالا سیکشن 5.1.1.5 کے مطابق کسی استثناء کی شناخت ہوتی ہو۔

**پانیدار طبی آلات (DME).** خواہ اس کا حکم KP فرایم کنندہ کے ذریعہ کیا گیا ہے یا نہیں، معابدہ والے وینڈر کے ذریعہ فرایم کردہ DME کو مستثنی کر دیا جاتا ہے الہ کہ اوپر والے سیکشن 5.1.1.5 کے مطابق کسی استثناء کی شناخت ہوتی ہو۔

**صحت کے منصوبوں کے پریمیٹم.** MFA پروگرام ایسے مرضیوں کی مدد نہیں کرتا جو بیلتھ کیٹر کو ریج کی قیمت ادا کرتے ہیں (جیسا کہ واجبات یا پریمیٹمز)۔

**غیر ابل اضافی خدمات.** اضافی خدمات جو MFA کی پالیسی کے تحت ابل نہیں ہیں ان کی نشاندہی ضمیم، سیکشن II, MFA کی پالیسی کے تحت اضافی خدمات کے ابل اور ابل نہیں ہے۔

**فرایم کنندگان.** MFA کا اطلاق صرف طبی نگہداشت فرایم کرنے والوں کے ذریعہ فرایم کی جانے والی ابل خدمات پر ہوتا ہے جن پر MFA کی پالیسی لاگو ہوتی ہے، جیسا کہ منسلک ضمیم، سیکشن III، فرایم کنندہ کے تابع ہے اور MFA کی پالیسی سے مشروط نہیں ہے۔

**پروگرام معلومات کے ذرائع اور MFA کے لئے درخواست کیسے دینی ہے.** MFA پروگرام کے بارے میں اضافی معلومات اور درخواست دینے کے طریقہ کے بارے میں مزید معلومات کا خلاصہ منسلک ضمیم، سیکشن IV، پروگرام کی معلومات اور MFA کے لئے درخواست دینے میں دیا گیا ہے۔

**پروگرام معلومات کے ذرائع.** MFA کی پالیسی، درخواست فارم، بدبایات، اور سادہ زبان کے خلاصے (جیسے پالیسی کے خلاصے یا پروگرام کے بروشورز) کی کاپیاں عوام کو، بلا معاوضہ، KFHP/H کی ویب سائٹ سے بذریعہ ای میل، یا امریکی پوسٹل ڈاک کے ذریعہ دستیاب ہیں۔

**MFA کے لئے درخواست دینا.** MFA پروگرام کے لئے درخواست دینے کے واسطے، مرضی کو KP کی خدمات کے لئے بقايا بیلنس، KP کے ساتھ طے شدہ ملاقات، یا KP فرایم کنندہ کے ذریعہ فارمیسی کے نسخے کے ذریعہ ابل خدمات کا آرڈر دینے کے لئے فوری طور پر ضرورت کا مظاہرہ کرنا ضروری ہے جیسا کہ اوپر بیان کیا گیا ہے۔ MFA پروگرام کے لئے مرضی متعدد طریقوں سے درخواست دے سکتا ہے بشمول آن لائن، ذاتی طور پر، ٹیلیفون کے ذریعے، یا کاغذ کی درخواست کے ذریعے۔

پالیسی نمبر: NATL.CB.307	پالیسی ثائل: طبی مالی معاونت
مؤثر تاریخ: 1 فروری 2021	ملکیتی محکمہ: National Community Benefit
صفحہ: 5 از 18	نکران: ڈائریکٹر طبی مالیاتی معاونت

**عوامی اور نجی پروگرام کی ابلیت کے لیے مریضوں کی اسکریننگ کرنا۔** KFHP/H تمام افراد کو صحت کی دیکھ بھال کی خدمات تک رسائی کو یقینی بنانے، مجموعی طور پر ذاتی صحت کے لیے، اور مریضوں کے اثنوں کے تحفظ کے لیے صحت بیم کی کوریج حاصل کرنے کی ترغیب دیتی ہے۔ MFA، KFHP/H پروگرام کے لیے درخواست دینے والے مریضوں کو مالی مشاورت فراہم کرتا ہے تاکہ ممکنہ عوامی اور نجی صحت کی کوریج کے پروگراموں کی شناخت کی جا سکے جو صحت کی دیکھ بھال تک رسائی کی ضروریات میں مدد گار بو سکتے ہیں۔ جو مریض کسی بھی عوامی یا نجی صحت کی کوریج کے پروگراموں کے لیے اپل سمجھا جاتا ہے اسے ان پروگراموں کے لیے درخواست دینے کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔

**MFA کے لئے درخواست دینے کے لئے ضروریات۔** طبی مالی امدادی پروگرام کے لیے ابلیت کا تعین کرنے کے لیے ایک مریض کی مالی حیثیت کی توثیق کے ساتھ ساتھ سرکاری اور نجی صحت کے پروگراموں کی کوریج کے لیے مکمل ذاتی، مالی اور دیگر معلومات کی ضرورت ہوتی ہے۔ نامکمل معلومات کی وجہ سے سے طبی مالی امداد سے انکار کیا جا سکتا ہے۔ معلومات تحریری طور پر، ذاتی طور پر یا ٹیلی فون پر فراہم کی جا سکتی ہیں۔

**مالی حیثیت کی توثیق۔** جب مریض مدد کے لیے درخواست دینا ہے تو مریض کی مالی حیثیت کی تصدیق کی جاتی ہے۔ اگر خارجی ڈینا کے ذرائع سے کسی مریض کی مالی حالت کی تصدیق کی جا سکتی ہے تو، مریض کو مالی دستاویزات فراہم کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔

**مالی اور دیگر معلومات کی فراہمی۔** اگر خارجی ڈینا کے ذرائع کا استعمال کر کے کسی مریض کی مالی حالت کی تصدیق نہیں کی جا سکتی ہے، تو مریض سے کہا جا سکتا ہے کہ وہ اپنی مالی حالت کی تصدیق کے لیے MFA پروگرام کی درخواست میں بیان کردہ معلومات پیش کرے۔

**مکمل معلومات۔** طبی مالی امدادی پروگرام کے لیے ابلیت کا تعین اس وقت ہوتا ہے جب تمام درخواست کردہ ذاتی، مالی اور دوسرا معلومات موصول ہو جاتی ہیں۔

**نامکمل معلومات۔** اگر ضروری معلومات نامکمل موصول ہوتی ہیں تو مریض کو ذاتی طور پر خطر یا ٹیلی فون کے ذریعہ سے مطلع کیا جاتا ہے۔ مریض نہ فراہم کردہ معلومات نوٹس بھیجنے، ذاتی طور پر بات چیت ہونے، یا ٹیلی فون کے ذریعے گفتگو ہونے کے 30 دن کے اندر بھیج سکتا ہے۔

**درخواست کردہ معلومات کی عدم دستیابی۔** وہ مریض جس کے پاس پروگرام کی درخواست میں بیان کی گئی معلومات کی وضاحت نہیں ہے وہ دوسرے دستیاب شوابد پر گفتگو کرنے کے لیے KFHP/H سے رابطہ کر سکتا ہے جو ابلیت کا مطابرہ کر سکتا ہے۔

**کوئی مالی معلومات دستیاب نہیں۔** جب (1) بیرونی ڈینا کے ذرائع سے مریض کی مالی حالت کی تصدیق نہیں ہو سکتی ہو، (2) درخواست کردہ مالی معلومات دستیاب نہ ہو اور (3) کوئی اور ایسا ثبوت موجود نہ ہو جس سے ابلیت کا مطابرہ کر سکتا ہو، تو اسے بنیادی مالی معلومات (جیسے، آمدنی، اگر کوئی ہے، اور ذریعہ) فراہم کرنے کی ضرورت ہوتی ہے اور اس کی صداقت کی تصدیق کرنی پڑتی ہے۔ مریض کی جانب سے بنیادی مالی معلومات اور تصدیق کی ضرورت ہوتی ہے جب مریض:

**5.4.2.4.1 بے گھر ہے، یا**

پالیسی نمبر: NATL.CB.307	پالیسی تائل: طبی مالی معاونت
مؤثر تاریخ: 1 فروری 2021	ملکیتی محکمہ: National Community Benefit
صفحہ: 6 از 18	نکران: ڈائریکٹر طبی مالیاتی معاونت

اس کی کوئی آمدنی نہیں ہے، اسے اپنے آجر سے باقاعدہ تنخواہ نہیں ملتی (ان لوگوں کے علاوہ جو اپنے طور پر سر روزگار بیس)، مالی تحائف ملتے ہیں، یا اسے گذشتہ ٹیکس سال کے لیے وفاقی یا ریاستی آمدن کے ٹیکس گوشوارے بھرنے کی ضرورت نہیں تھی، یا

معروف قومی یا علاقائی نیابی سے متاثر ہوا ہو (نجے سیکشن 5.11 ملاحظہ کریں)۔

**5.4.2.4.2 مريض کا تعاوون.** ایک مريض کا تمام مطلوبہ معلومات فرایم کرنے کے لئے مناسب کوشش کرنا ضروری ہے۔ اگر سبھی درخواست کردہ معلومات فرایم نہیں کی جاتی ہے تو حالات کا جائزہ لیا جاتا ہے اور ابليت کا تعین کرتے وقت حالات کو زیر غور لایا جا سکتا ہے۔

**5.4.2.4.3 ممکنہ ابليت کا تعین.** جس مريض نے درخواست نہیں دی ہے اس کی نشاندہی پروگرام کے ابل کی حیثیت سے بو سکتی ہے سوائے اس کے جو مريض کی فرایم کردہ معلومات کے علاوہ ہے۔ اگر ابل بننے کے لیے پر عزم ہے تو، مريض کو مالی حالت کی تصدیق کے لیے ذاتی، مالی اور دیگر معلومات فرایم کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور اسے خودکار طور پر MFA ایوارڈ تفویض کیا جا سکتا ہے۔ کسی مريض کو اس وقت ابل قرار دیا جاتا ہے جب مريض کو بڑی قرار دے دیا گیا ہو یا قرض کے خراب حوالے سے اس کی نشاندہی کی گئی ہو، جیسا کہ ذیل میں بیان کیا گیا ہے:

**5.5.1 پہلے سے ابل.** عوامی اور نجی امدادی پروگراموں کے لیے جس مريض کا مالی اسکریننگ کے عمل کے ذریعہ تعین کیا جاتا ہے اسے MFA پروگرام کے لیے ابل قرار دیا جاتا ہے۔ مريض کو پہلے سے ابل سمجھا جاتا ہے اگر مريض:

**5.5.2 کمیونٹی MFA (Community MFA, CMFA)** پروگرام میں اندرج شدہ ہے جس میں مريضوں کو (1) وفاقی، ریاست یا مقامی حکومت، (2) ایک شراکت دار کمیونٹی کی تنظیم، یا (3) KFHP/H کے زیر انتظام کمیونٹی کے صحت واقعہ، میں شریک کیا گیا ہے۔

**5.5.2.1 KP کمیونٹی کی مراعات کے پروگرام میں شدہ ہے جو کم آمدنی والے مريضوں کی دیکھ بھال تک، اور KFHP/H کے نامزد ابلکاروں کے ذریعہ رسائی کی حمایت کرنے کے لئے ڈیزائن کیا گیا ہے، یا**

**5.5.2.2 صحت کی کوئیح کے قابل معائنه پروگرام میں رجسٹرڈ ہے** (مثال کے طور پر، طبی کم آمدنی کا امدادی پروگرام، یا

**5.5.2.3 آخری 30 دنوں کے اندر پیشگی MFA ایوارڈ ملا تھا**

**5.5.3 قرض کے خراب حوالہ کے لیے اس کی شناخت کی گئی ہے۔** ابليت اور ادائیگی کے دیگر تمام ذرائع ختم ہو جانے کے بعد، ایک مريض جس نے KP کی سہولت حاصل کی ہے اور مالی تنگدستی کی علامات (جبکہ، ماضی کے سابقہ بقا یا بیلننس) موجود ہیں اس کی خارجی ڈیٹا کے ذرائع کا استعمال کرتے ہوئے پروگرام کی ابليت کے لیے اسکریننگ کی جا سکتی ہے۔ اگر ابل ہے تو، مريض صرف ابل بقا یا بیلننس کے لیے MFA ایوارڈ وصول کرتا ہے۔ بو سکتا ہے کہ ابل خدمات کے لیے بقا یا بیلننس کو کلیکشن کے لیے نہ بھیجا جائے، جو کہ کلیکشن کی مزید کارروائی کے تابع ہے، یا KP کے خراب قرض کے اخراجات میں شامل ہے۔

**5.6 پروگرام کی ابليت کا معیار۔** جیسا کہ منسلک ضمیمہ، سیکشن 7، ابليت کے معیار میں خلاصہ بیان کیا گیا ہے، MFA کے لیے درخواست دینے والا مريض آزمودہ ذرائع، یا زیادہ طبی اخراجات کے معیار پر مبنی مالی مدد کے لیے ابل بو سکتا ہے۔

پالیسی نمبر: NATL.CB.307	پالیسی تائیل: طبی مالی معاونت
مؤثر تاریخ: 1 فروری 2021	ملکیتی محکمہ: National Community Benefit
صفحہ: 7 از 18	نکران: ڈائریکٹر طبی مالیاتی معاونت

**5.6.1 وسائل کا اندازہ لگانے کا معیار.** اس بات کا تعین کرنے کے لیے کہ آیا مریض وسائل کا اندازہ لگانے کی ابیلت کے معیار کو پوار کرتا ہے یا نہیں، مریض کا جائزہ لیا جاتا ہے۔

**5.6.1.1 آمدنی کی سطح کی بنیاد پر ابیلت.** KFHP/H سے کم یا اس کے برابر مجموعی گھریلو آمدنی والے مریض کا مطلب یہ ہے کہ وہ وفاqi غربت کے رینما خطوط (Federal Poverty Guidelines, FPG) کے فی صد کے طور پر وسائل کا اندازہ لگانے کے معیارات کا معیار جو معاشی مدد کے ابل ہے۔

**5.6.1.2 گھریلو آمدنی.** آمدنی کے تقاضے گھر کے اراکین پر لاگو ہوتے ہیں۔ گھرانہ کا مطلب ایک فرد یا دو یا دو سے زیادہ افراد کا گروپ ہے جو پیدائش، شادی، یا گود لینے سے وابستہ ہیں جو ایک ساتھ رہتے ہیں۔ گھرانہ کے اراکین میں شریک حیات، گھرانہ کے ابل شراکت دار، بچے، نگران رشتے دار، نگران رشتہ داروں کے بچے اور دیگر افراد شامل ہو سکتے ہیں جن کے لیے اکیلا فرد، شریک حیات، گھرانہ کے ساتھی یا والدین معاشی طور پر ذمہ دار ہیں جو گھر میں رہتے ہیں۔

**5.6.2 بہت زیادہ طبی اخراجات کا معیار.** اس بات کا تعین کرنے کے لیے کہ آیا مریض زیادہ طبی اخراجات کی ابیلت کے معیار پر پورا اترتا ہے یا نہیں، مریض کا جائزہ لیا جاتا ہے۔

**5.6.2.1 بہت زیادہ طبی اخراجات کی بنیاد پر ابیلت.** کسی بھی گھریلو مجموعی آمدنی کی سطح کا مریض جو 12 ماہ کی مدت کے دوران ابل خدمات کے لیے استطاعت سے باہر ہونے والے طبی اور دواؤں کے اخراجات پر مشتمل ہوتا ہے، سالانہ گھریلو آمدنی کا 10% سے زیادہ یا اس کے برابر۔

**5.6.2.1.1 KFHP/H استطاعت سے فاضل اخراجات.** Kaiser Permanente کی سہولیات میں طبی اور فارمیسی اخراجات شامل ہیں، مشترکہ ادائیگی، جمع کرائی گئی رقم، مشترکہ انسورنس جائزہ، اور مستحق خدمات سے متعلق کٹوںیاں۔

**5.6.2.1.2 استطاعت سے فاضل غیر KFHP/H اخراجات.** ابل خدمات سے متعلق، غیر KP سہولیات میں فرایم کیے جانے والے میڈیکل، فارمیسی، اور معمول کے دانتوں کے علاج کے اخراجات، اور مریض کی طرف سے کئے جانے والے اخراجات (کسی بھی چھوٹ یا منبا کردہ کو چھوڑ کر) شامل ہیں۔ ایک مریض کو غیر Kaiser Permanente کی سہولیات میں حاصل کردہ خدمات پر اٹھنے والے طبی اخراجات کی دستاویزات فرایم کرنا ضروری ہے۔

**5.6.2.1.3 صحت کے منصوبوں کے پریمیئم.** ذاتی اخراجات میں صحت کی دیکھ بھال کی کوریج (یعنی، واجب الادا رقم یا پریمیئم) کے ساتھ منسلک اخراجات شامل نہیں ہیں۔

## انکار اور اپیلیں 5.7

**5.7.1 انکار.** ایک مریض جو طبی مالی امدادی پروگرام کے لئے درخواست دیتا ہے اور ابیلت کے معیار پر پورا نہیں اترتا، اسے یا تو تحریری طور پر یا زبانی طور پر مطلع کیا جاتا ہے کہ طبی مالی امداد کے لئے اس کی درخواست منظور نہیں کی گئی۔

پالیسی نمبر: NATL.CB.307	پالیسی تائل: طبی مالی معاونت
مؤثر تاریخ: 1 فروری 2021	ملکیتی محکمہ: National Community Benefit
صفحہ: 8 از 18	نکران: ڈائریکٹر طبی مالیاتی معاونت

**5.7.2 طبی مالی امدادی پروگرام سے انکار کے خلاف اپل کیسے کریں۔**  
ایک مریض (مرد / عورت) جس کا خیال ہے کہ اس کی درخواست یا معلومات کو مناسب طریقے سے نہیں سمجھا گیا اس فیصلے کے بارے میں اپل کر سکتا ہے۔ اپل کے عمل کو مکمل کرنے کے لئے بدایات طبی مالی امدادی پروگرام کے انکاری خط میں شامل ہیں۔ اپلوں کا نامزد کردہ KFHP/H عملہ کے ذریعہ جائزہ لیا جاتا ہے۔

**5.8 ایوارڈ کا ڈھانچہ**. MFA ایوارڈ کا اطلاق ماضی کے بقايا یا بقايا بیلنس پر بوتا ہے جن کی نشاندہی قرض کے خراب حوالہ اور صرف زیرالتوا معاوضے سے پہلے کی جاتی ہے۔ ایوارڈز میں کسی مطلوبہ فالو اپ خدمات کے لئے ابیت کی مدت بھی شامل ہو سکتی ہے جیسا کہ KP فرایم کنندہ کے ذریعہ طے کیا جاتا ہے۔

**5.8.1 ایوارڈ کی بنیاد**. MFA پروگرام کے ذریعہ ادا کیے جانے والے مریض کے خرچ کا تعین اس بنیاد پر بوتا ہے کہ مریض کی صحت کی دیکھ بھال کی کوریج اور مریض کی گھریلو آمدنی ہے یا نہیں۔

#### **5.8.1.1 نگهداری صحت کی کوریج کے بغیر (بیمہ یافتہ) MFA کے مستحق مریض بغیر بیمہ والے اپل مریض کو مریض کی تمام اپل خدمات کے خرچ پر چھوٹ ملتی ہے۔**

**5.8.1.2 نگهداری صحت کی کوریج والا (بیمہ یافتہ) MFA کا اپل مریض**. بیمہ یافتہ اپل مریض کو تمام اپل خدمات (1) کے مریض کے خرچ پر چھوٹ ملتی ہے جس کے لئے مریض ذاتی طور پر ذمہ دار بوتا ہے اور (2) جو کہ اس کے یا بیمہ فرایم کرنے والے کے ذریعہ ادا نہیں کیا جاتا ہے۔ مریض کو لازمی طور پر دستاویزات، جیسا کہ فوائد کی وضاحت (Explanation of Benefits, EOB) فرایم کرنا یعنی تاکہ یہ کے اس حصے کا تعین کیا جا سکے جو بیمہ کے زمرے میں نہیں آتا۔

**5.8.1.2.1 انشورنس کے ادارے کی جانب سے وصول کی جانے والی رقم**. ایک اپل بیمہ مریض کے لئے ضروری ہے کہ وہ KFHP/H پر KFHP کے ذریعہ فرایم کردہ خدمات کے لئے کسی بھی ادائیگی پر دستخط کرے جو مریض کے بیمہ فرایم کنندہ کی جانب سے ملتا ہے۔

**5.8.1.3 چھوٹ کا شیدیوں**. پالیسی کے تحت دستیاب چھوٹ کے بارے میں اضافی معلومات کا خلاصہ منسلک ضمیمه، سیکشن VI، چھوٹ کے شیدیوں میں بیان کیا گیا ہے۔

**5.8.1.4 تصفیوں سے حاصل ہونے والی رقمیں**. H/KFHP/FKHP کی فریق ثالث کی ذمہ داری/ذاتی بیمہ تحفظ کے بنویسٹ، ادائیگی کرنے والوں، یا دیگر قانونی طور پر ذمہ دار فریقوں سے باز ادائیگی وصول کرتا ہے۔

**5.8.2 ایوارڈ کی ابیت کی مدت**. فالو اپ کی خدمات کے لئے ابیت کی مدت منظوری کی تاریخ سے شروع ہوتی ہے، یا اس تاریخ سے جب خدمات فرایم کی گئی نہیں، یا اس تاریخ سے جب ادویات بھیجی گئی نہیں۔ ابیت کی مدت کا دورانیہ صرف ایک محدود وقت ہے اور مختلف طریقوں سے KP کی صوابید پر اس کا تعین کیا جاتا ہے، بشمول:

**5.8.2.1 وقت کا مخصوص دورانیہ**. قرض کے خراب حوالہ سے قبل شناخت شدہ فالو اپ کی خدمات اور مریض کے بقايا خرچ کے بیلنس کیلئے زیادہ سے زیادہ 365۔

**5.8.2.2 بنر مند نرسنگ اور انٹرمیڈیٹ نگهداری**. KP سے باہر فرایم کردہ خدمات کے لئے زیادہ سے زیادہ 30 دن

پالیسی نمبر: NATL.CB.307	پالیسی ثائل: طبی مالی معاونت
مؤثر تاریخ: 1 فروری 2021	ملکیتی محکمہ: <b>National Community Benefit</b>
صفحہ: 9 از 18	نکران: ڈائریکٹر طبی مالیاتی معاونت

- 5.8.2.3 پائیدار طبی سازوسامان۔ وینڈر کے فرایم کردہ طبی سازوسامان کے لیے زیادہ سے زیادہ 180 دن۔**
- 5.8.2.4 علاج کا کورس یا نگہداشت کا ایسی سوڈ KP فرایم کنندہ کے ذریعہ معین کردہ کے مطابق علاج اور/یا نگہداشت کے پروگرام کے لیے زیادہ سے زیادہ 180 دن۔**
- 5.8.2.5 جو مریض ممکنہ طور پر عوامی اور نجی صحت کی کوریج کے پروگراموں کے ابل بیں۔ اس دوران جب مریض عوامی اور نجی صحت کی کوریج کے پروگراموں کے لیے درخواست دیتے بیں، مریض کی مدد کے لیے زیادہ سے زیادہ 90 دن۔**
- 5.8.2.6 یک وقتو فارمیسی ایوارڈ MFA کے پروگرام میں درخواست دینے سے پہلے، اگر مریض (1) کے پاس MFA ایوارڈ نہیں ہے، (2) FHP/H/KFHP/H فارمیسی میں KP فرایم کنندہ کے ذریعہ لکھا ہوا نسخہ پُر کرتا ہے، اور (3) نسخے کی ادائیگی میں ناابلی کا اظہار کرتا ہے تو، مریض ایک وقتی فارمیسی ایوارڈ کا ابل ہے۔ یک وقتی ایوارڈ 30 دنوں تک محدود ہے اور اس میں KP فرایم کنندہ کے ذریعہ طبی لحاظ سے مقرر کردہ دوا کی مناسب فرایمی بھی شامل ہے۔**
- 5.8.2.7 ایوارڈ میں توسعی کے لیے درخواست۔ موجودہ ایوارڈ کی میعاد ختم ہونے کی تاریخ سے تیس (30) دن پہلے اور اس کے بعد کسی بھی وقت، مریض پروگرام کے لیے دوبارہ درخواست دے سکتا ہے۔**
- 5.8.3 ایوارڈ منسوج کر دیا گیا، منسلک، یا ترمیم شدہ۔ کچھ معاملات میں، KFHP/H اپنی صوابید پر، MFA ایوارڈ کو کالعدم کر، واپس لے، یا اس میں ترمیم کر سکتا ہے۔ حالات میں شامل ہیں:**
- 5.8.3.1 فراؤ، چوری، یا مالی تبدیلی۔ دھوکہ دبی، غلطی، چوری، مریض کی مالی صورت حال میں تبدیلیاں، یا دیگر حالات جو ایم اے پروگرام کی سالمیت کو کمزور بناتی ہے۔**
- 5.8.3.2 سرکاری اور نجی صحت کی کوریج کے پروگراموں کے لئے ابل بیں۔ عام اور نجی صحت کی کوریج کے پروگراموں کے لئے ایک مریض کا انتظام کیا جا سکتا ہے لیکن ان پروگراموں کے لئے درخواست کے عمل سے تعاون نہیں ہوتا۔**
- 5.8.3.3 دیگر ادائیگی کے درائع کی شناخت۔ صحت کی کوریج یا مریض کے بعد کی شناخت دوسرے ادارے کے ذریعہ MFA ایوارڈ حاصل کرتا ہے اس وجہ سے ابل ابلکاروں کو دوبارہ ریٹریٹو طریقے سے دوبارہ بل کرنے کے الزامات کا سبب بنتا ہے۔ اگر ایسا ہوتا ہے تو، مریض کو (1) بل کے اس حصے کی ادائیگی کرنے کے لیے نہیں کہا جانا ہے جس کے لیے مریض ذاتی طور پر ذمہ دار ہوتا ہے اور (2) جو اس کی صحت کی کوریج یا ادائیگی کے دوسرے ذریعہ کے ذریعہ ادا نہیں کیا جاتا ہے۔**
- 5.8.3.4 صحت کی کوریج میں تبدیلی۔ یک مریض جو صحت کی دیکھ بھال کی کوریج میں تبدیلی کا تجربہ کرتا ہے اسے MFA پروگرام میں دوبارہ لاگو کرنے کے لئے کہا جائے گا۔**

پالیسی نمبر: NATL.CB.307	پالیسی تائل: طبی مالی معاونت
مؤثر تاریخ: 1 فروری 2021	ملکیتی محکمہ: National Community Benefit
صفحہ: 10 از 18	نکران: ڈائریکٹر طبی مالیاتی معاونت

چارجز کی حد MFA کے ابل مريضوں کو Kaiser Foundation Hospitals میں فراہم کی جانے والے اسپیتال کے ابل معاوضوں کے لیے ڈالر کی شکل میں مکمل رقم (بعنی مجموعی چارجز) وصول کرنا منع ہے۔ ایک مريض جس نے Kaiser Foundation Hospitals میں ابل بسپیتال کی خدمات حاصل کی تھیں اور MFA پروگرام کے ابل بین، لیکن MFA ایوارڈ موصول نہیں ہوا ہے یا MFA ایوارڈ سے انکار نہیں کیا گیا ہے، عام طور پر ان کی خدمات کے لئے بل (amounts generally billed, AGB) رقم سے زیادہ چارج نہیں کیا جاتا۔

## 5.9

**عام طور پر ادا کیے جانے والے بل کی رقمیں.** جو افراد جن کے پاس بیم کی کوریج جیسی نگہداشت ہے ان کے لیے بنگامی صورت حال یا دیگر طبی طور پر ضروری نگہداشت کے لیے عام طور پر ادا کیے جانے والے بل کی رقمیں (AGB) کا KP سہولیات میں تعین کیا جاتا ہے جیسا کہ منسلک ضمیمه، سیکشن VII، کا عام طور پر بل کی گئی رقموں (AGB) کے حساب کتاب کی بنیاد میں بیان کیا گیا ہے۔

## 5.9.1 مجموعہ اعمال۔

**5.10.1 مناسب اطلاع کی کوششیں.** KFHP/H یا قرض کی وصولی کرنے والی ایجنسی جو اس کی طرف سے کام کرتی ہے MFA کے پروگرام کے بارے میں ماضی کے بقایا یا بقایا بیلنس والے مريضوں کو مطلع کرنے کے لیے معقول کوششیں کرتی ہے۔ مناسب توثیفکیشیں کی کوششوں میں شامل ہیں:

**5.10.1.1 پہلے ہی خارج ہونے والے مادہ کے بیان کے 120 دن کے اندر ایک تحریری نوٹس فراہم کرنے والے اکاؤنٹ بولڈر کو بتانا ہے کہ MFA ان لوگوں کے لئے دستیاب ہے جو ابل بین۔**

**5.10.1.2 کلیکشن کے غیر معمولی کارروائیں** ECA (extraordinary collection actions) کی فہرست کے ساتھ اس بات کا تحریری نوٹس فراہم کرنا کہ KFHP/H یا قرض جمع کرنے والی ایجنسی مريضوں کے اخراجات کے بیلنس کی ادائیگی شروع کرنے کا ارادہ رکھتی ہے، اور اس طرح کی کارروائیوں کی آخری تاریخ، جو کہ تحریری نوٹس سے 30 دن پہلے نہ ہو۔

**5.10.1.3 پہلے بسپیتال کے مريض کے بیان کے ساتھ MFA پالیسی کی ایک سادہ زبان کا خلاصہ فراہم کرنا۔**

**5.10.1.4 MFA کی پالیسی کے بارے میں زبانی بولڈر کو مطلع کرنے اور MFA درخواست کے عمل کے ذریعے مدد حاصل کرنے کے بارے میں مطلع کرنے کی کوشش کی۔**

**5.10.1.5 ماضی کے بقایا یا مريض کے بقایا بیلنس کو قرض جمع کرنے والی ایجنسی میں منتقل کرنے سے پہلے درخواست کرنے پر، پروگرام کی ابیلت کا تعین۔**

**5.10.2 غیر معمولی مجموعہ کارروائی معطل۔** KFHP/H کسی مريض کے خلاف غیرمعمولی کلیکشن کی کارروائیوں (ECA) کی طرف سے جمع کرنے والی ایجنسیوں کو اپنی طرف سے منظم کرنے کی اجازت نہیں دیتا ہے، اگر مريض:

**5.10.2.1 کے پاس ایک فعال MFA ایوارڈ ہے، یا**

**5.10.2.2 ECA کے آغاز کے بعد MFA کی درخواست شروع کردی ہے۔** حتی ابداف کا تعین کرنے تک ECA کو معطل کر دیا جاتا ہے۔

**5.10.3 قابل اجازت غیر معمولی مجموعہ اعمال۔**

پالیسی نمبر: NATL.CB.307	پالیسی ثائل: طبی مالی معاونت
مؤثر تاریخ: 1 فروری 2021	ملکیتی محکمہ: National Community Benefit
صفحہ: 11 از 18	نکران: ڈائریکٹر طبی مالیاتی معاونت

#### 5 مناسب کوششوں کا حتمی تعین۔ کسی بھی ECA کو شروع

کرنے سے قبل، علاقائی آمدنی کے مرض مالیاتی خدمات رینما  
مندرجہ ذیل کو یقینی بناتا ہے:

##### 5.10.3.1.1 پروگرام کے مرض کو مطلع کرنے کے لئے مناسب کوششوں کی تکمیل، اور

##### 5.10.3.1.2 مرض کو MFA کے لئے درخواست دینے کے لئے پہلے بلنگ کے بیان سے کم از کم 240 دن فرایم کے گئے بین۔

#### 5.10.3.2 صارفین کریڈٹ ایجنسیوں یا کریڈٹ بیوروں کی روپرٹنگ۔

KFHP/H یا قرض جمع کرنے والی ایجنسی جو اپنی طرف سے کام  
کر رہی ہے وہ صارفین کے کریڈٹ روپرٹنگ ایجنسیوں یا کریڈٹ بیورو کو  
منفی معلومات کی اطلاع دے سکتی ہے۔

#### 5.10.3.3 عدليہ یا سول اعمال۔ کسی بھی عدالتی یا سول کاروائی پر عمل کرنے سے پہلے، KFHP/H کے خارجی ڈیٹا کے ذرائع سے مرض کی مالی حیثیت کی توثیق کرتا ہے تاکہ اس بات کا تعین کیا جا سکے کہ مرض MFA پروگرام کا اہل ہے یا نہیں۔

##### 5.10.3.3.1 MFA پروگرام کے لیے اہل۔ جو مرض MFA پروگرام کے اہل ہیں ان کے خلاف کوئی اضافی کاروائی عمل میں نہیں لائی جاتی ہے۔ MFA کے لئے اہلیت والے اکاؤنٹس منسوخ کردیئے گئے ہیں اور ایک ریٹروویسی بنیاد پر واپس آتے ہیں۔

##### 5.10.3.3.2 MFA پروگرام کے لیے نا اہل۔ بہت محدود معاملات میں، علاقائی چیف فانشل آفیسر یا کنٹرولر سے پہلے منظوری کے ساتھ درج ذیل اقدامات کئے جا سکتے ہیں:

##### 5.10.3.3.2.1 اجرت کے حصول

##### 5.10.3.3.2.2 مقدمات/ سول اعمال۔ قانونی کاروائی کسی فرد کے خلاف عمل نہیں کیا جاتا جو ہے روزگاری اور دیگر ایم آمدنی کے بغیر ہے۔

##### 5.10.3.3.2.3 ربانشوں کی ضبطگی۔

#### 5.10.4 ممنوعہ غیر معمولی مجموعہ اعمال۔ KFHP/H کسی بھی صورت میں، نہ تو مندرجہ ذیل اقدامات کرتا ہے اور نہ بھی قرض جمع کرنے والی ایجنسیوں کو ایسے اقدامات کرنے کی اجازت دیتا ہے:

##### 5.10.4.1 بنگامی یا طبی طور پر ضروری دیکھ بھال فرایم کرنے سے پہلے، پچھلے توازن کے اکاؤنڈر کے غیر ادائیگی کے باعث، ادائیگی، انکار، یا ادائیگی کی ضرورت ہے۔

##### 5.10.4.2 ایک اکاؤنٹ بولڈر کا قرض تیسرا فریق کو فروخت کر دین۔

##### 5.10.4.3 اثنوں کی فروخت پر پابندی یا اکاؤنٹس کا منجمد بونا۔

##### 5.10.4.4 گرفتاری کے لئے وارنٹس کی درخواست۔

##### 5.10.4.5 جسم کے منسلکات کی درخواستیں۔

پالیسی نمبر: NATL.CB.307	پالیسی تائیل: طبی مالی معاونت
مؤثر تاریخ: 1 فروری 2021	ملکیتی مکمل: National Community Benefit
صفحہ: 12 از 18	نکران: ڈائریکٹر طبی مالیاتی معاونت

**آفت میں ردعمل.** KFHP/H عارضی طور پر اپنے معروف پروگرام کی ابلیت کے معیار اور درخواست کے طریقوں میں ترمیم کر سکتا ہے تاکہ ایک مشہور پروگرام سے متاثرہ افراد اور مریضوں کو دستیاب امداد کو بڑھایا جا سکے جو ریاست یا وفاقی حکومت کے ذریعہ کسی آفت کے طور پر ابل قرار پائے ہیں۔

**ابلیت میں ممکنہ ترمیمات.** MFA کی ابلیت کے معیار میں عارضی تبدیلیاں شامل ہو سکتی ہیں:

5.11.1.1 ابلیت کی پابندیاں معطل کرنا

5.11.1.2 اندازہ لگانے والے معیار کے وسائل کی حد میں اضافہ کرنا۔

5.11.1.3 زیادہ طبی اخراجات کے معیار کی حد کو کم کرنا۔

**درخواست کے عمل میں ممکنہ ترمیمات.** MFA کی درخواست کے عمل میں عارضی تبدیلیوں میں شامل ہو سکتے ہیں:

5.11.2.1 مریضوں کو بنیادی مالی معلومات (جیسے، آمدنی، اگر کوئی ہے، اور اس کا ذریعہ) فراہم کرنے کی اجازت دینا اور اس کی صداقت کی تصدیق کرنا جب (1) خارجی ڈیٹا کے ذرائع سے اس کی مالی حیثیت کی تصدیق نہیں ہو سکتی ہو، (2) وافعہ کی وجہ سے درخواست کردہ مالی معلومات دستیاب نہ ہو، اور (3) کوئی دوسرا ثبوت موجود نہ ہو جو ابلیت کا مظاہرہ کرتا ہو۔

5.11.2.2 گھریلو آمدنی کا تعین کرتے وقت اس واقعے کی وجہ سے اجرت/ملازمت کے مستقبل میں ہونے والے نقصان کے اثرات کو مد نظر رکھنا۔

**عوام کے لیے معلومات دستیاب.** MFA کے پروگرام کی عارضی تبدیلیوں کو بیان کرنے والی معلومات MFA کے پروگرام کے ویب صفحہ پر اور متاثرہ علاقوں میں KP کی سہولیات میں عوام کو فراہم کی جاتی ہے۔

## حوالہ جات/ضمیمه جات 6.0

اپنڈکس A. اصطلاحات کی فربنگ 6.1

قوانين، ضوابط اور ذرائع 6.2

بیشنٹ پروٹیکشن اینڈ افورڈیبل کیئر ایکٹ، پبلک لاء 111-148 (Patient Protection and Affordable Care Act, Public Law 111-148) ([2010] 124 Stat. 119)

وفاقی رجسٹر اور سالانہ وفاقی غربت کی گائیڈ لائنز (Federal Register and the Annual Federal Poverty Guidelines)

انٹرnel ریونیو سروس پبلیکیشن، 2014 شیڈول ایچ کے لئے بدایات (Internal Revenue Service Publication, 2014 Instructions for Schedule H) (فارم 990)

انٹرnel ریونیو سروس نوٹس 2010-39 (Internal Revenue Service Notice 2010-39)

انٹرnel ریونیو سروس کوڈ، 26 وفاقی ضابطوں کا کوڈ RIN 1545-BK57; (Code Of Federal Regulations, CFR) پارٹس 1، 53 اور 602، RIN 1545-BL30; RIN 1545-BL58 خیراتی بسپتالوں کے لئے اضافی ضروریات

کیلیفورنیا بسپتال ایسوسوی ایشن۔ بسپتال فناشیل اسٹیشن پالیسیز اینڈ کمیونٹی بینیفیٹ لاز، 2015 ایڈیشن

پالیسی نمبر: NATL.CB.307	پالیسی ثائل: طبی مالی معاونت
مؤثر تاریخ: 1 فروری 2021	ملکیتی محکمہ: <b>National Community Benefit</b>
صفحہ: 13 از 18	نکران: ڈائریکٹر طبی مالیاتی معاونت

California Hospital Association – Hospital Financial Assistance Policies & )  
(Community Benefit Laws, 2015 Edition

کیتھولک بیلتھ ایسووسی ایشن آف یونائیٹڈ سٹیٹس۔ اے گائیڈ فار پلاننگ اینڈ  
رپورٹنگ کمیوٹی بینیفت، 2012 ایڈیشن 6.2.7

Catholic Health Association of the United States – A Guide for Planning & )  
(Reporting Community Benefit, 2012 Edition

فرابم کنندگان کی فہرستیں 6.3

فرابم کنندہ کی فہرستیں KFHP/H کی ویب سائٹ پر دستیاب ہیں: 6.3.1

Kaiser Permanente of Hawaii 6.3.1.1

Kaiser Permanente of Northwest 6.3.1.2

Kaiser Permanente of Northern California 6.3.1.3

Kaiser Permanente of Southern California 6.3.1.4

Kaiser Permanente of Washington 6.3.1.5

پالیسی نمبر: NATL.CB.307	پالیسی تائل: طبی مالی معاونت
مؤثر تاریخ: 1 فروری 2021	ملکیتی محکمہ: National Community Benefit
صفحہ: 14 از 18	نکران: ڈائریکٹر طبی مالیاتی معاونت

## اپنڈکس اے اصطلاحات کی فربنگ

**کمیونٹی MFA** (CMFA) کا مطلب یہ منصوبہ بندی سے طبی مالیاتی معاونت پروگرام جو کمیونٹی پر مبنی اور کلی حفاظتی تنظیموں کے ساتھ مل کر کام کرتا ہے تاکہ کے پی سہولیات پر کم آمدن غیر انشومنس شدہ اور کم انشورنس شدہ مرضیوں کو طبی طور پر ضروری کینٹر مہبا کی جا سکے۔

**قرض جمع کرنے والی ایجنسی** سے مراد ایسا شخص ہے جو براہ راست یا بالواسطہ کارروائی کے ذریعہ کسی قرض دیندہ یا قرض خریدار کو کسی قرض دیندہ، یا واجب الادا قرض لینے کے لئے جمع کرنے یا اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔

**پائیدار طبی آلات (DME)** میں شامل لیکن محدود نہیں، سٹینڈرڈ کینز، بیسیاکھیاں، نیبولائیزرز، مطلوب فائدہ دینے والی سپلائز، گھر میں استعمال کے لئے دروانے کے اوپر ٹریکشن یونٹ، ویبل چینز، واکرز، سپیتال بیڈز، اور گھر میں استعمال کے لئے آکسیجن جیسا کہ ڈی ایم اے طریقہ کار میں مخصوص کیا گیا ہے۔ ڈی ایم اے میں آرٹھوٹکس، پروستھیکٹس شامل نہیں ہوتے (مثال کے طور پر ڈائنامک سپلینٹس/آرٹھوسس، اور بناوٹی لیرنکس اور سپلائز) اور کاؤٹر پر سپلائز اور سافٹ گڈز (مثال کے طور پر یورالوجیکل سپلائز اور وونڈ سپلائز)۔

**اہل مریض وہ شخص ہے جو اس پالیسی میں بیان کردہ اہلیت کے معیار پر پورا اترتا ہے، چاہے مریض (1) بیمه یافتہ نہ ہو؛ (2) عوامی پروگرام (جیسے، Medicaid، Medicare)، یا صحت سے متعلق بیمه کے تبادلے کے ذریعہ خریدی جانے والی نگهداریت صحت کی کوریج) کے ذریعہ کوریج حاصل کرتا ہو؛ (3) صحت کے منصوبے کے ذریعے KFHP کے علاوہ کوئی کرایا گیا ہو؛ یا (4) KFHP میں وہ شامل ہو۔**

**خارجی ڈینا کے** ذرائع وہ فریق ثالث وینڈرز بین جنہیں عوامی ریکارڈ کے ڈینا بیس کی بنیاد پر کسی ماذل کا استعمال کر کے مالی ضرورت کی جانب پڑنا کے لئے مریض کی ذاتی معلومات کا جائزہ لینے کے ذریعہ استعمال کیا جاتا ہے جو مریض کے مالی استعداد کے اسکور کا حساب لگانے کے لئے ایک ہی معیار کی بنیاد پر مریض کا اندازہ کرتا ہے۔

**وفاقی غربت گائیڈ لائنز (FPG)** غربت کے لئے سالانہ آمدن کی سطح قائم کرتا ہے جس کا صحت اور انسانی خدمات کا امریکی محکمہ تعین کرتا ہے اور فیڈرل رجسٹر میں سالانہ اپ ڈیٹ کیا جاتا ہے۔

**مالی مشاورت وہ عمل ہے جو مرضیوں کو KP کی سہولیات میں فراہم کی جانے والی خدمات کی ادائیگی کے لئے دستیاب مالی اعانت اور صحت کی کوریج کے مختلف اختیارات دریافت کرنے میں مدد کے لئے استعمال کیا جاتا ہے۔** مریض جو مالیاتی مشاورت حاصل کر سکتے ہیں میں شامل لیکن محدود نہیں، خود ادائیگی، غیر بیمه شدہ، کم بیمه شدہ، اور وہ جنہوں نے مریض کی پوری ذمہ داری ادا کرنے سے معدوزی ظاہر کی ہے۔

**بے گھر** اس شخص کی حیثیت بیان کرتا ہے جو مقامات میں سے کسی ایک مقام پر رہتا ہے یا وہ ذیل میں بیان کی گئی صورتحال میں ہے:

- ان مقامات میں جو انسانی عادات کے لئے نہیں ہیں، جیسا کہ گاڑیوں، پارکس، فٹ پاٹھ، متروک عمارت، سریٹ پر؛ یا ایک بنگامی پناہ گاہ میں؛ یا
- عارضی یا سماਰا دینے والے ان گھروں میں جو بے گھر افراد کے لئے جو دراصل سٹریٹس یا بنگامی پناہ گاہوں سے آئے ہوں۔
- کسی بھی درج بالا مقامات پر لیکن ایک مختصر وقت کے لئے وقت گزار دیے ہوں (مسلسل 30 دن تک) سپیتال میں یا کسی دوسرے ادارے میں۔
- ایک بفتے کے دوران ایک نجی مکان سے یہ دخل کیا جاریا ہو یا گھریلو تشدد کے صورتحال سے بھاگ رہا ہو اور کوئی مناسب رہائش کی نشاندہی نہ بواور فرد کے پاس گھر کے حصول کے لئے ضروری وسائل اور حمایتی نیٹ ورکس کی کمی ہو۔
- ایک بفتے کے دوران ایک ادارے سے ڈسچارج کیا جا رہا ہو جیسا کہ ذہنی صحت یا مخصوص برائی کے علاج کی سہولت میں جہاں وہ فرد مسلسل 30 دن سے زیادہ رہائش رکھ چکا ہو اور کوئی مناسب رہائش کی نشاندہی نہ ہو سکی بواور فرد کے پاس مالیاتی وسائل اور سماجی حمایت کی کمی ہو جو رہائش کے حصول کے لئے ضروری ہیں۔

پالیسی نمبر: NATL.CB.307	پالیسی تائل: طبی مالی معاونت
مؤثر تاریخ: 1 فروری 2021	ملکیتی محکمہ: National Community Benefit
صفحہ: 15 از 18	نکران: ڈائریکٹر طبی مالیاتی معاونت

### اپنڈکس M اصطلاحات کی فربنگ (جاری)

KP میں Kaiser Foundation Hospitals، Kaiser Foundation Health Plans، Kaiser Permanente Medical Groups، و سوائے Kaiser Permanente Insurance Company (KPIC) کے شامل ہیں۔

**KP سہولیات** میں شامل ہے کوئی بھی موجود احاطے، کے پی کی طرف سے کے پی کا کاروبار چلانے کے لئے ملکیتی یا لیز پر ایک عمارت کا اندرونی اور بیرونی حصہ شامل ہے۔ جس میں مریض کو کیئر کی فرایمی بھی شامل ہے (مثال کے طور پر ایک عمارت، یا ایک کے پی فلور، یونٹ، یا نان کے پی عمارت کا دوسرا اندرونی یا بیرونی حصہ)۔

**اندازہ لگانے والے وسائل** ایک ایسا طریقہ ہے جس کے ذریعہ مریض کے ذریعہ فرایم کردہ خارجی ڈینا کے ذرائع یا معلومات کو عوامی کوریج کے پروگرام با MFA کی ابیلت کا تعین کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اس بنیاد پر کہ اس فرد کی آمدنی وفاقي غربت کے ربنا خاطوط کی ایک مخصوص فیصلہ سے زیادہ ہے یا نہیں۔

**طبی مالی امداد (MFA)** ایل مریضوں کے لیے طبی اخراجات کی ادائیگی کے لئے مالیاتی ابوارڈ فرایم کرتا ہے جو اپنی طبی طور پر ضروری تمام خدمات، مصنوعات یا ادویات کی یا ایک حصے کی ادائیگی کرنے سے قاصر ہیں اور جنہوں نے عوامی اور نجی ادائیگی کرنے والے ذرائع ختم کر دیے ہیں۔ افراد کے لیے نگهداشت کے کچھ یا تمام خرچ کی ادائیگی کرنے کے لیے تعاون کے پروگرام کے میعاد کو پورا کرنا ضروری ہے۔

**میڈیکل سپلائز** کا مطلب ہے دوبارہ ناقابل استعمال میڈیکل مواد جیسا کہ سپلینٹس، سلنگز، ختموں کی ڈریسنگ، اور بینڈیج ہے جو کہ ایک لائنسنس شدہ بیلنٹ کیٹر مہیا کرنے والے کی جانب سے فرایم کی گئی بوجھ کے طبی طور پر ضروری خدمات فرایم کی جا رہی ہوں، اور ایک مریض کی جانب سے کسی دوسرے ذریعے سے خریدی یا حاصل کیا گیا مواد شامل نہیں ہے۔

**مریض کے خرچ** کا مطلب مریضوں کو KP کی سہولیات (جیسے اسپیتالوں، اسپیتال سے منسلک کلینیکوں، طبی مرکار، طبی دفتر کی عمارتوں اور آٹ پیشنٹ فارمیسیوں) میں حاصل ہونے والی نگهداشت کے لیے بل ادا کیے جانے والے معاوضوں کا وہ حصہ ہے جو بیمه یا عوامی سطح پر مالی امداد سے چلنے والے نگهداشت صحت کے پروگرام کے ذریعہ بازادائیگی نہیں کی جاتی ہے۔

**فارمیسی استثنی** کم آمدنی KP سینیئر ایڈوانٹیج Medicare پارٹ D ارکان کو مالیاتی معاونت فرایم کرتا ہے جو Medicare پارٹ D کے تحت آٹ پیشنٹ ادویات کی کوریج کے لئے اخراجات کا اپنا شیئر برداشت کرنے کے قابل نہیں ہوتے۔

**سیفٹنی نیٹ سے مراد** غیر منفعتی تنظیموں اور/یا سرکاری ایجنسیوں کا ایک ایسا نظام ہے جو کمیونٹی میں کسی بیمه یا بیمار طبقہ کو براہ راست طبی نگهداشت کی خدمات فرایم کرتا ہے جیسے پبلک بسپیتال، کمیونٹی کلینیک، چرچ، یہ گھر افراد کی پناہ گاہ، موبائل بیلنٹ یونٹ، اسکول وغیرہ۔

**ناکافی بیمه کی کوریج والے شخص سے مراد** وہ فرد ہے جو، نگهداشت صحت کی کوریج کے باوجود، محسوس کرتا ہے کہ انشورنس پریمیم، نقد ادائیگیوں، مسترک بیمه، اور کٹوٹیوں کی ادائیگی کی ذمہ داری اتنا ایم مالی بوجھ ہے کہ مریض کو ضروری نگهداشت صحت کی خدمات حاصل کرنے میں تاخیر ہو جاتی ہے یا استطاعت سے باہر اخراجات کی وجہ سے یہ حاصل نہیں کر پاتا ہے۔

**بغیر بیمه والے شخص سے مراد** وہ شخص ہے جس کے پاس نگهداشت صحت کی خدمات کی ادائیگی میں مدد کے لیے نگهداشت صحت کا بیمه نہیں ہے یا اسے وفاقي یا ریاستی سرپرستی میں مالی مدد حاصل نہیں ہوتی ہے۔

**نادر آبادیوں** میں ایسے آبادیاتی گروپس شامل ہوتے ہیں جن کی صحت اور بہبود سماجی و اقتصادی درجے، بیماری، قومیت، عمر یا دوسرے معدودی کے عوامل کے باعث عام آبادی کے مقابلے میں زیادہ پر خطر تصور ہوتی ہے۔

**باڈی منسلک کرنے کی رٹ وہ عمل ہے** جس کی ابتداء عدالت کی جانب سے حکام کو اس بات کی بدایت کرنے کے لیے ہے کہ وہ سول توبین کا ارتکاب کرنے والے شخص کو عدالت کے سامنے پیش کرے، گرفتاری کے وارنٹ کی طرح

پالیسی نمبر: NATL.CB.307	پالیسی تائل: طبی مالی معاونت
مؤثر تاریخ: 1 فروری 2021	ملکیتی محکمہ: National Community Benefit
صفحہ: 16 از 18	نکران: ڈائریکٹر طبی مالیاتی معاونت

### Kaiser Permanente Northern California صمیمه:

صمیمه کی مؤثر تاریخ: 1 جنوری، 2022

.I اسپیتال سے وابستہ کلینیکوں، طبی مراکز اور طبی دفاتر کی عمارتوں اور آؤٹ پیشینٹ فارمیسیوں پر لاگو ہوتی ہے۔ شمالی کیلیفورنیا میں Kaiser Foundation Hospitals درج ذیل پر مشتمل ہے:

KFH San Rafael	KFH Richmond	KFH Antioch
KFH Santa Rosa	KFH Roseville	KFH Fremont
KFH South Sacramento	KFH Redwood City	KFH Fresno
KFH South San Francisco	KFH Sacramento	KFH San Leandro
KFH Vacaville	KFH Santa Clara	KFH Manteca
KFH Vallejo	KFH San Francisco	KFH Modesto
KFH Walnut Creek	KFH San Jose	KFH Oakland

نوث: §127400 Kaiser Foundation Hospitals کے صحت و حفاظتی کوڈ (Health & Safety Code §127400) کے تحت بسپیتال کی شفاف پرائسنگ پالیسیوں (Hospital Fair Pricing Policies) پر عمل کرتے ہیں۔

### .II MFA پالیسی کے تحت اضافی ابل اور غیر ابل خدمات.

a. بے گھر مریضوں کے لئے سفری سہولت۔ KP باسپیٹلز یا KP کے بنگامی شعبہ جات سے فارغ ہونے والے بے گھر مریض کی سہولت کے لئے بنگامی یا غیر بنگامی صورتحال میں میسر ہے۔

.i.

b. اضافی غیر ابل خدمات

i. سمعی آلات

ii. بصری سپلائز

### .iii. Medi-Cal شئیر آف کاست (Share of Cost, SoC) سے متعلق اخراجات۔

Medi-Cal SoC کو Medi-Cal پروگرام کا لازمی حصہ سمجھا جانا ہے جسے Medi-Cal سے مستفید ہونے والوں کی معاونت میں بیلٹم کینٹر کے فوائد مہیا کرنے کے لئے ڈیزائن کیا گیا ہے جو اپنی آمدنی بلند تر حد کے آخر تک پہنچ چکے ہیں۔ MFA کو SoC کی رقموں پر لاگو نہیں کیا جا سکتا، کیوں کہ مریض کے Medicaid کا ابل ہونے سے پہلے ریاست SoC کا اس رقم کے لیے تعین کیا جانا ہے جو مریض کو ادا کرنا ضروری ہے۔

.III فرایم کنندہ MFA پالیسی کے مطابق اور عدم مطابق۔ فرایم کنندگان کی Kaiser Foundation Hospitals میں فہرست MFA پالیسی کے مطابق اور عدم مطابق ہے اور عام عوام کو بلا معاوضہ KFHP/H MFA کی ویب سائٹ [www.kp.org/mfa/ncal](http://www.kp.org/mfa/ncal) پر دستیاب ہے۔

.IV پروگرام معلومات اور MFA کے لئے درخواست دینا۔ MFA کی معلومات میں MFA پالیسی کی نقول، درخواست فارمز، بدایات اور عام زبان میں خلاصہ شامل ہیں (جیسا کہ پروگرام بروشورز) عام عوام کے لئے بلا معاوضہ الیکٹرونک فارمیٹ یا بارڈ کاپی میں دستیاب ہیں۔ ایک مریض KFHP/H سے

پالیسی نمبر: NATL.CB.307	پالیسی تائیل: طبی مالی معاونت
مؤثر تاریخ: 1 فروری 2021	ملکیتی محکمہ: <b>National Community Benefit</b>
صفحہ: 17 از 18	نکران: ڈائریکٹر طبی مالیاتی معاونت

درج ذیل یا دوران علاج MFA پروگرام کے لئے مختلف طریقوں ذاتی طور پر، ٹیلی فون کے ذریعے، یا کاغذ پر درخواست دے سکتا ہے۔ (حوالہ 5.3 اور 5.4 درج بالا)۔

a. **KFHP/H کی ویب سائٹ سے آن لائن درخواست مکمل کر کے جمع کرائیں۔** مريض MFA کی ویب سائٹ [www.kp.org/mfa/ncal](http://www.kp.org/mfa/ncal) سے الیکٹرانک طور پر درخواست کی معلومات حاصل کر کے اسے جمع کر سکتا ہے۔

b. **KFHP/H کی ویب سائٹ سے پروگرام کی معلومات ڈاؤن لوڈ کرنا۔** پروگرام معلومات کی الیکٹرونک کاپیاں MFA کی ویب سائٹ [www.kp.org/mfa/ncal](http://www.kp.org/mfa/ncal) پر دستیاب بین۔

c. **الیکٹرونک طریقے سے پروگرام معلومات کی درخواست کریں۔** پروگرام معلومات کی الیکٹرونک کاپیاں درخواست پر ای میل کے ذریعے دستیاب بین۔

d. **پروگرام معلومات حاصل کرنا یا ذاتی طور پر درخواست دینا۔** پروگرام معلومات داخلے کے وقت، ایمرجنسی روم ڈبیارڈمنٹس Kaiser Foundation Hospitals زیر فہرست سیکشن I Kaiser Foundation Hospitals میں دستیاب ہے۔

e. **پروگرام معلومات کی درخواست یا ٹیلی فون کے ذریعے درخواست کرنا۔** ٹیلی فون پر معلومات کی فرائیمی کے لئے مشورہ دینے والے دستیاب بین تاکہ MFA کی ابلیت کا تعین بو سکے اور مريض کو MFA کے لئے درخواست دینے میں معاونت مل سکے۔ مشورہ دینے والوں سے درج ذیل نمبر پر رابطہ کیا جا سکتا ہے:

ٹیلیفون نمبر: 1-800-390-3507

f. **پروگرام معلومات کی درخواست یا ڈاک کے ذریعے درخواست کرنا۔** ایک مريض پروگرام معلومات کے لئے درخواست کر سکتا ہے اور MFA کے لئے ڈاک کے ذریعے درخواست مکمل MFA کی درخواست داخل کر سکتا ہے۔ معلومات کی عرضیاں اور درخواستیں درج ذیل پر ڈاک پتہ پر کی جاسکتی ہیں:

Kaiser Permanente  
 Attention: Medical Financial Assistance Unit  
 P.O. Box 30006  
 Walnut Creek, California 94598

g. **درخواست مکمل کر کے بذات خود پہنچائیں۔** مکمل کی گئی درخواستیں بر ایک Kaiser Foundation Hospitals میں ذاتی طور پر داخلہ کرنے والے محکمے کو دی جاسکتی ہیں۔

V. **ابلیت کا معیار۔** MFA کی ابلیت کا تعین کرتے ہوئے ایک مريض کی گھریلو آمدن مدنظر رکھی جاتی ہے۔ (حوالہ سیکشن 5.6.1 درج بالا)۔

a. **ٹیسٹنگ کا معیار: وفاقی غربت کے ربنا اصولوں کے 400% تک**

b. **KFHP کے اركان جن کی کثوتی بوتی ہے کو پروگرام کی ابلیت کے لئے زیادہ طبی اخراجات کے معیار کو پورا کرنا لازمی ہے۔**

VI. **چھوٹ کا شیدوں۔** طبی مالیاتی امداد کے لئے ابل مريض سے KP کے ذریعہ وصول کی جانے والی رقم مريض کو پروگرام کے لئے ابل بناء کے لئے استعمال کردہ ابلیت کی قسم پر مبنی ہے۔

a. **مريض مرد/عورت وسائل کا اندازہ لگانے کی ابلیت کے معیار بر پورا اترتا ہے۔** مرد/عورت وسائل کا اندازہ لگانے کی ابلیت کے معیار پر پورا اترنے والا مريض ان فرایم کردہ خدمات کے لئے جن کے لئے مريض ذمہ دار ہے مريض کے اخراجات یا اس کے ایک حصہ کے طور پر 100% چھوٹ وصول کرے گا۔

پالیسی نمبر: NATL.CB.307	پالیسی تائیل: طبی مالی معاونت
مؤثر تاریخ: 1 فروری 2021	ملکیتی مکمل: National Community Benefit
صفحہ: 18 از 18	نکران: ڈائریکٹر طبی مالیاتی معاونت

b. مریض اعلیٰ طبی اخراجات کے معیار پر پورا اترتا ہے۔ اعلیٰ طبی اخراجات کے معیار پر پورا اترنے والا مریض ان فرایم کرده خدمات کے لئے جن کے لئے مریض ذمہ دار ہے مریض کے اخراجات یا اس کے ایک حصہ کے طور پر 100% چھوٹ وصول کرے گا۔

**VII.** عمومی طور پر بل کی رقم کے حساب کے لئے بنیاد (AGB). KFHP/H کسی ایمجننسی یا دوسری طبی طور پر ضروری نگہداشت کے لئے AGB کا تعین کرتا ہے جس کے لئے عقبی تناظر کا طریقہ استعمال کرتے ہوئے نگہداشت کے لئے کل چارجز کو AGB کے ریٹ سے ضرب دی جاتی ہے۔ AGB ریٹ سے متعلق معلومات اور حساب KFHP/H MFA کی ویب سائٹ [www.kp.org/mfa/nca](http://www.kp.org/mfa/nca) پر دستیاب ہے۔

**VIII.** ریفنڈ، ایسے معاملات میں جب مریض نے درخواست دی ہو، اور اسے MFA کے لئے منظور کر لیا گیا ہو، KFHP/H کو اسپیتال اور/با پیشہ ور ان خدمات کے لئے، Medicare، Medi-Cal یا کسی دوسرے سرکاری ادائیگی کنندہ کے ذریعہ ادائیگی کی توقع کے مقابلے میں اس سے زیادہ رقم وصول کرنے کے لئے ریفنڈ کر دیا جاتا ہے۔

a. کوڈ آف سول پروسیجر کے سیکشن 685.010 میں طے شدہ شرح پر سود وصول کی جائے گی؛ اس تاریخ سے جب مریض کی جانب سے کی جانب والی ادائیگی اسپیتال کو موصول ہو جائے۔ موجودہ شرح 10% ہے۔